



سوال

(299) ایام حیض میں حیا کے باعث نماز پڑھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر کوئی عورت اپنے ایام حیض میں حیا کے باعث نماز پڑھے تو کیا یہ جائز ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حائضہ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

”کیا یہ بات نہیں کہ عورت حیض کے دنوں میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزے رکھ سکتی ہے۔“ (صحیح بخاری، کتاب الحيض، باب ترک الحائض الصوم، حدیث: 304 و صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات، حدیث: 80)

اور یہ حدیث صحیحین میں آئی ہے۔ عورت اپنے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، بلکہ حرام ہے اور نہ ہی یہ صحیح ہوگی، اور نہ ہی اس پر ان دنوں کی نمازوں کی قضا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں:

کنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

”ہم عورتوں کو روزوں کی قضا دینے کا حکم دیا جاتا تھا نہ کہ نمازوں کی قضا کا۔“ (صحیح بخاری، کتاب الحيض، باب لا تقضی الحائض الصلاة، حدیث: 321 و صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلاة، حدیث: 335)

عورت کا ان دنوں میں حیا کے مارے نماز پڑھنا ایک حرام کام ہے، قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ بحالت حیض نماز پڑھے یا طہر شروع ہونے کے بعد غسل کیے بغیر نماز پڑھے۔ ہاں اگر طہر شروع ہونے کے بعد پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر کے پڑھے حتیٰ کہ پانی پالے اور پھر غسل کرے۔

ھذا ما عندي والله أعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 262

محدث فتویٰ